



**Department of
Education**

Chancellor Richard A. Carranza

Elizabeth A. Rose
Chief Executive Officer
School Operations

**52 Chambers Street
New York, NY 10007**

**212 374 7868 Tel
212 374 5588 Fax**

5 ستمبر، 2018

مکرمی اہل خانہ اور عملہ،

میں نیویارک شہر محکمہ تعلیم (DOE) میں ہونے والے موجودہ اقدامات کے بارے میں جدید ترین معلومات فراہم کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے اسکولوں میں پانی کو طلباء اور علمے کے لیے محفوظ ہونے کو یقینی بناتے ہیں۔

اول اور اہم ترین، نیویارک شہر کا پانی محفوظ ہے۔ خاندانوں اور عملے کو یقین ہونا چاہیے کہ ہمارا پینے کا پانی دنیا میں اعلیٰ ترین معیار کا ہے۔ نیویارک شہر کا پانی تمام وفاقی اور ریاستی معیارات پر پورا اترتا ہے یا ان سے متجاوز ہے۔ اس کے علاوہ، DOE شہر کے دیگر اداروں کے ساتھ یہ یقینی بنانے کے لیے کام کرتا ہے کہ اسکولوں میں محفوظ پینے کا پانی موجود ہو۔ طلباء اور علمے کا تحفظ اور ان کی بہبود ہماری اعلیٰ ترین ترجیح ہے۔

ریاستی قانون کے مطابق، تمام اسکولوں کے لیے ہر پانچ سال بعد سیسے کے لیے پانی کی جانچ کروانا لازمی ہے۔ اس خزاں میں، DOE ایک نیا جانچ کا دورانیہ شروع کرے گا، جو دسمبر 2020 میں ختم ہوگا۔ اس دورانیے کے پہلے مرحلے میں، ایک تہائی عمارتوں کی جانچ کی جائے گی۔

آپ کے اسکول کی عمارت کو 2018 کے گروہ کے ایک جز کے بطور منتخب کیا گیا ہے۔ عمارت کی جانچ ہو جانے اور نتائج موصول ہونے پر، آپ کو نتائج کے بارے میں اطلاع دی جائے گی۔ کسی بھی عمارت میں جہاں نتائج میں صرف ایک پانی کے نکاس میں بھی اونچی ایکشن سطح نظر آئے گی، DOE اپنا معیاری ردعمل طریق کار نافذ کرے گا۔

ہر ایک اور تمام اسکولوں میں پینے کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے ہمارے ذریعے استعمال کیے جانے والے کڑے طریق کار کے بارے میں مزید جاننے کے لیے براہ مہربانی <https://www.schools.nyc.gov/about-us/reports/water-safety> پر جائیں۔

آپ کی مخلص،

Elizabeth A. Rose